



سوال

(777) والدہ کا کسی بچے کو کوئی چیز دینا جبکہ دوسرے مالدار ہوں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کسی بیٹے کے مالدار ہونے کی وجہ سے کسی بیٹے کو میں وہ چیز دے سکتی ہوں جو میں دوسرے کو نہ دوں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اپنے بچوں سے کسی مذکورہ نمونہ کو دوسرے کے بغیر خاص کرنا تیرے لیے جائز نہیں بلکہ وراثت کے لحاظ سے ان کے درمیان عدل کرنا یا ان تمام کو رہنے دینا ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"فالتقوا اللہ واعدوا بین اولادکم" [1]

"اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو۔"

لیکن اگر وہ آپس میں کسی کو کسی چیز سے خاص کرنے پر راضی ہوں تو اگر راضی ہونے والے بالغ اور سمجھدار ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح اگر تیری اولاد میں سے جو کسی بیماری یا کمانے سے رکاوٹ والی کوئی وجہ ہونے سے کمانے سے بے بس ہو اور اس کا والد نہ ہو اور نہ ہی کوئی بھائی جو اس پر خرچ کرتا ہو اور اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ ہو جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو تو تب تجھ پر لازم ہوگا کہ تو اس پر اتنی مقدار خرچ کرے جس سے اللہ اسے غنی کر دے۔ (سماحہ الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ)

[1] - صحیح البخاری رقم الحدیث (2447)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

صفحہ نمبر 695

محدث فتویٰ